

# کوآپریٹو ایجوکیشن (معاون تعلیم)

طلبہ کی کامیابی کے اقدام کے ذریعہ اونٹاریو سیکنڈری اسکولس طالب علم کی انفرادی آموزشی اسالیب او دلچسپیوں کی تکمیل میں مدد کرنے کے لیے توسیعی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ان پروگراموں سے طلبہ کو متعدد نئے اور آموزشی کے بہتر اختیارات کے ذریعہ اپنے ہائی اسکول تجربہ کو اپنی انفرادی ضروریات کے مطابق رد و بدل کرنے کا موقع ملے گا۔ ان اختیارات میں ڈول کریڈٹس، اسپیشلسٹ ہائی اسکول میجرس اور کوآپریٹو ایجوکیشن شامل ہیں۔

یہ پروگرامس تمام طلبہ کی ضروریات، دلچسپیوں اور خوبیوں کی تکمیل، پڑھائی میں ان کو مشغول رکھنے اور گریجویشن اور اس کے علاوہ دیگر تعلیم کے لیے ان کو بہتر طور پر تیار کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔

## معاون پروگراموں کے بنیادی فوائد

کوآپ طلبہ کے پاس ذیل کی چیزوں کا موقع ہوتا ہے:

- دستی عمل کی محتاج پڑھائی کا تجربہ
- "جانچ سواری" ("ٹیسٹ-ڈرائیو") زندگی کے اختیارات
- اپنے درجے کی پڑھائی کے ربط کو دیکھنا
- مقام عمل کے تجربے کے ذریعے کریڈٹس حاصل کرنا
- مقام عمل میں مطلوب لازمی مہارتوں اور عادتوں کو پروان چڑھانا
- قیمتی کام کا تجربہ حاصل کرنا جو مابعد سیکنڈری کے پروگراموں اور مستقبل کی ملازمت کے لیے شخصی کوائف کی تعمیر میں مدد کرے گا۔

## معاون پروگرامس کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ میں مزید جان کاری کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟

- تمام اونٹاریو اسکول بورڈوں کو آپ پروگرامس پیش کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اپنے اسکول کے پرنسپل یا اپنے اسکول بورڈ پر اسٹوڈنٹ سکس لینڈر سے رابطہ کریں۔ کوآپریٹو ایجوکیشن کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات [www.ontario.ca/studentuccess](http://www.ontario.ca/studentuccess) پر مل سکتی ہیں۔

## کوآپریٹو ایجوکیشن (معاون تعلیم) (کوآپ) کیا ہوتا ہے؟

- کوآپریٹو ایجوکیشن (معاون تعلیم) وزارت سے منظور شدہ ایک پروگرام ہے جس سے طلبہ کو کام کے تقرر کو مکمل کرتے ہوئے سیکنڈری اسکول کریڈٹس حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پروگرام ایک معاون تعلیم کے استاذ کے ذریعہ نگرانی کیے جانے والے معاون کورس، کسی مضمون یا ورک پلیسمنٹ میں متعلقہ نصاب کورس پر مشتمل ہوتا ہے۔
- طلبہ اپنی ہائی اسکول گریجویشن کے لازمی تقاضے میں دو معاون کریڈٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جس میں اختیاری معاون کریڈٹ کے حاصل کرنے پر کوئی حد نہیں ہوتی۔ معاون تقریروں کا بندوبست طلبہ کے لیے ان کے سیکنڈری اسکول کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور انہیں لازمی طور پر وزارت تعلیم کی پالیسی اور رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

## یہ کن کے لیے ہے؟

- معاون پروگرام سیکنڈری طلبہ کے لیے ہے جو اپریٹائٹنسٹپ (نو آموزگی)، کالج، یونیورسٹی یا مقام عمل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔

ontario.ca/EDUparents